



KHOJA (PIRHAI) SHIA ISNA ASHERI JAMAAT
خوجہ (پیرائی) شیعہ اثناعشری جماعت
ಖોજ (ਪਿਰਹਾਏ) ਸ਼ੀਆ ਈਸ਼ਨਾਅਸ਼ਰੀ ਜਮਾਤ

ماہِ رمضان المبارک 1442 کوئز

3 رمضان المبارک

1- دعائے افتتاح کے مطابق ہمیں کیسی حکومت چاہئے؟

- ✓ جس میں اسلام کو عزت ملے
- جس میں رزق کی فراوانی ہو
- جس میں نوکری آسانی سے مل جائے
- جس میں آسانی سے زندگی گزرے

2- ماہِ مبارک میں کونسی بصیرت بڑھائیں؟

- ✓ خدا ہماری اولین ترجیح ہو جائے
- کھانا کم کھانے کی عادت ہو جائے
- کم پانی پینے کی عادت ہو جائے
- کھانے کے الگ الگ ذائقوں کی پہچان ہو جائے

3- جاپانی نوبل انعام کے حامل کے مطابق 12 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے سے کیا ہوتا ہے؟

- وزن کم ہونے لگتا ہے
- جسم میں توانائی بڑھ جاتی ہے
- بدن کے اچھے cells ناکارہ cells کو ختم کر دیتے ہیں ✓
- ورزش کی ضرورت نہیں رہتی

4- ماہ مبارک نے کونسی صلاحیت بڑھائیں؟

- حق کہنے کی ✓
- کم کھانے کی
- کم بولنے کی
- کم کام کرنے کی

5- آیت اللہ کشمیری نے کس چیز کی تاکید فرمائی؟

- کسی ایک آیت کو بار بار پورا دن پڑھیں اور اس پر تدبر کریں ✓
- جلد سو جائیں
- صبح جلدی اٹھیں
- ثواب کا حساب کتاب کریں